

کتاب کا نمبر = 12

کتاب کا نمبر = 12

09K-91-22

کتاب کا نمبر = 12

ہر سوال کے چار متعلقہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ ذرا دیکھ کر ہر سوال کے ساتھ دیے گئے متعلقہ جوابات میں سے صحیح جواب کے مطابق صحیح جواب کو مار کر یا ناپن سے ہر دیکھتے ایک سے ذرا متعلقہ جوابات کو مار کر کے باہر کر کے کسی صورت میں نہ کوئی جواب لکھنا اور ہر سوال

سوال نمبر 1

Formula of Lactic Acid is	$C_3H_4O_3$ (D)	$C_3H_6O_3$ (C)	$C_6H_{12}O_6$ (B)	NH_3 (A)	1
One gram of protein has amount of energy.	4.6 kcal (D)	5 kcal (C)	4 kcal (B)	2.4 kcal (A)	2
Root hairs belong to.	Stomatal cell (B)	Pericycle cell (A)	Cortical cell (D)	Epidermal cell (C)	3
Example of colonial organization is.	Bacteria (D)	Euglena (C)	Spirogyra (B)	Volvox (A)	4
Jabir Bin Yahan was born in.	America (D)	England (C)	Iran (B)	Iraq (A)	5
Productive theory keeps on suggesting new	Hypothesis (D)	Observations (C)	Deduction (B)	Law (A)	6
Multicellularity is absent in Kingdom.	Protista (D)	Monera (C)	Plantae (B)	Animalia (A)	7
Thin extensions of inner mitochondrial membrane are known as?	Stroma (D)	Thylakoids (C)	Matrix (B)	Cristae (A)	8
The Prokaryotic chromosome is made up of.....	only DNA (B)	DNA and Protein (A)	only Lipid (D)	only Protein (C)	9
In an adult human cells die due to apoptosis each day.	30 to 40 Billion (B)	20 to 30 Billion (A)	50 to 70 Billion (D)	40 to 60 Billion (C)	10
During which phase of Mitosis spindles are formed?	Metaphase (D)	Prophase (C)	Interphase (B)	G2 (A)	11
Pepsin enzymes works in.	Stomach (D)	Oesophagus (C)	Intestine (B)	Mouth (A)	12

150 = 100
48 = 100

(Part I) مسائل

09K-91-22

100 = 100

Q.No.2: Write short answers to any five of the following. 5x2=10

Define species and habitat.	ایسی مخلوط اور نئی مخلوط کی تعریف کیجئے۔	i
Differentiate between simple community and complex community.	سادہ، گھونٹنی اور پیچیدہ گھونٹنی میں فرق تحریر کیجئے۔	ii
What do you mean by unicellular organization? Give two examples	ایک یا کئی آئینہ دار خلیوں سے کیا مراد ہے؟ اسکی دو مثالیں تحریر کیجئے۔	iii
Define deduction.	ڈڈر کھن کی تعریف کیجئے۔	iv
Why do welts appear after mosquito bite?	پھر کے کاٹنے سے ہلد ہر اہماد سائیکوں بن جاتا ہے؟	v
Write down the observations of A.F.A King about plasmodium.	پلازموڈیم کے بارے میں اسے ایک اسے سنگ کے مشاہدات تحریر کیجئے۔	vi
What is micrograph?	مائیکرو گراف کیا ہے؟	vii
Why do chromoplasts are important for plant cells?	کروموپلاسٹ پودے کے پتوں کے لیے پھول ضروری ہوتے ہیں؟	viii

Q.No.3: Write short answers to any five of the followings. 5x2=10

Write the main features of Kingdom Protista and its types.	کنگڈم پروٹسٹا کی اہم خصوصیات اور اس کی اقسام تحریر کیجئے۔	i
Write the scientific names of Onion and Sea Star?	پیاز اور سی سٹار کے سائنسی نام تحریر کیجئے۔	ii
Define Necrosis also write the causes of Necrosis?	نیکروسیس سے کیا مراد ہے؟ اسکی وجوہات کیا ہیں؟	iii
Write any two significances of Mitosis.	مائیٹوسس کی کوئی سی دو اہمیت بیان کیجئے۔	iv
Draw the figure of Cytokinesis phase in Mitosis and labelled it?	مائیٹوسس میں سائٹو کینیسز فیوژن کی شکل بنا کر لیبل کیجئے۔	v
Difference between Benign and Malignant?	بہنائن اور ملینکنٹ میں فرق بیان کیجئے۔	vi
Write the two main stages of Aerobic Respiration.	ایرو بیٹک ریسپیریشن کے دو بنیادی مراحل تحریر کیجئے۔	vii
When and who discovered A.T.P?	کب اور کس نے ATP کو ایجاد کیا؟	viii

Q.No.4: Write short answers to any five of the followings. 5x2=10

What is meant by lock and key model?	لاک اینڈ کی ماڈل سے کیا مراد ہے؟	i
Define substrates and products.	سبسٹریٹس اور پراڈکٹس کی تعریف کیجئے۔	ii
Define co-factor and co-enzyme.	کو فیکٹر اور کو اینزائم کی تعریف کیجئے۔	iii
What are the precautions for dengue fever?	ڈنگی فیور کی حفاظتی تدابیر کوئی ہیں؟	iv
What do you know about anaemia?	انیمیا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟	v
Write down the symptoms and treatment of ulcer.	السر کی علامات اور علاج تحریر کیجئے۔	vi
What is pulse?	نبض (Pulse) کیا ہے؟	vii
What is meant by angina pectoris?	انجائنا پیکٹورس سے کیا مراد ہے؟	viii

(Part II) حصہ دوم

NOTE: Attempt any two questions from this part. 9x2=18

Write note on organ level with example.	3+1	آرگن لیول پر مثال کے ساتھ نوٹ تحریر کیجئے۔	سوال نمبر 5 (A)
	2+3	میری سٹیک ٹیوز کیا ہیں؟ ان کا پودوں کی نشوونما میں کردار اور اس کی اقسام تحریر کیجئے۔	(B)
What are meristematic tissues? Give its role in growth of plants and write its types.			
Explain taxonomic hierarchy.	2+2	یکساوی کے نظام مراتب پر مفصل نوٹ تحریر کیجئے۔	سوال نمبر 6 (A)
	1+4	ڈوڈ مشینی سیز کی تعریف کیجئے۔ ڈوڈ مشینی سیز کے ڈارک ری ایجنٹوں کی وضاحت کیجئے۔	(B)
Define photosynthesis. Explain dark reactions of photosynthesis.			
Explain structure, function, importance and sources of lipids	1x4	لیپڈز کی ساخت، افعال، اہمیت اور ذرائع تحریر کیجئے۔	سوال نمبر 7 (A)
	2+3	Rh- بلا گروپ سسٹم سے کیا مراد ہے؟ Rh بلا گروپ سسٹم میں خون کی منتقلی پر نوٹ تحریر کیجئے۔	(B)
What is Rh blood group system? Explain its transfusion.			

ہر سوال کے بارے میں سوچو کہ A, B, C اور D میں سے کون سا صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ہر سوال کے ساتھ دو یا دو سے زائد جواب دہی کے لئے ایک سے زائد دائروں کو بھرنے کی بجائے ایک دائرہ کو بھرنے کی صورت میں ہر سوال کا جواب لکھنا ضروری ہے۔

It deals with the study of fossils ?	(A) Palaeontology (B) Genetics (C) Embryology (D) Taxonomy	1
The book Al-Haywan is written by ?	(A) Bu Ali Sina (B) Abdul Malik Asmai (C) Aristotle (D) Jabir Bin Hayan	2
Who read the works of other naturalist to form his theory of Evolution?	(A) Aristotle (B) Darwin (C) Laveran (D) Ronald Ross	3
The organisms which are eukaryotic multicellular consumers are included in which kingdom?	(A) Monera (B) Protista (C) Plantae (D) Animalia	4
The sites where ribosomal RNA are formed ?	(A) Mitochondria (B) Ribosomes (C) Nucleolus (D) Vacuoles	5
..... cell are the most abundant cells in plants.	(A) Parenchyma cells (B) Collenchyma cells (C) Sclerenchyma cells (D) Xylem cells	6
Mitosis occurs only in these cells.	(A) Germ line cells (B) Prokaryotic cells (C) Eukaryotic cells (D) Bacterial cells	7
Inhibition of which during G2 phase prevents cells from undergoing mitosis?	(A) Ribosomes synthesis (B) Protein synthesis (C) Duplication of Chromosomes (D) Enzymes synthesis	8
Lipase enzyme acts on Lipids and digests them into fatty acids and.....	(A) Vitamins (B) Glycerol (C) Glycogen (D) Glucose	9
..... percent of light falling on the leaf surface is absorbed?	(A) About 1% (B) About 2% (C) About 3% (D) About 15%	10
Which of the mineral hardens tooth enamel ?	(A) Calcium (B) Iron (C) Chloride (D) Floride	11
Which of the following have valves to prevent backflow of blood ?	(A) Arteries (B) Veins (C) Capillaries (D) Muscles	12

پہلے نمبر = 9.50
دوسرا نمبر = 9.50

(Part I) حصہ اول

DAK-92-22

پہلے نمبر = 9.50
دوسرا نمبر = 9.50

Q.No.2: Write short answers to any five of the following. 5x2=10 سوال نمبر 2: درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

What are major biological issues today ?	آج کے دور کے بڑے بائیولوجیکل مسائل کیا ہیں ؟	i
Define tissue. Give name of two plant tissues and two animal tissues.	ٹشو کی تعریف کیجئے۔ پتوں اور جانوروں کی دو دو ٹشو کے نام بھی تحریر کیجئے۔	ii
What do you mean by horticulture and how is it different from agriculture ?	ہارٹیکلچر سے کیا مراد ہے ؟ اور اس کا تعلق دیگر کھیتی باڑیوں سے کیسے بنتا ہے ؟	iii
Write down the observations about malaria.	ملیریا کے بارے میں مشاہدات تحریر کیجئے۔	iv
What do you mean by recognition of biological problem ?	بائیولوجیکل مسئلہ کی پہچان سے کیا مراد ہے ؟	v
Quantitative observations are better in biological method. How ?	بائیولوجیکل مشاہدے میں مقدار کی مشاہدات بہتر ہوتے ہیں۔ کیسے ؟	vi
Write down the principles of cell theory.	خلیہ کی تیوری کے اصول تحریر کیجئے۔	vii
Define endocytosis. Give its types.	اینڈوسائٹوسس کی تعریف کیجئے اور اس کی اقسام بیان کیجئے۔	viii

Q.No.3: Write short answers to any five of the followings. 5x2=10 سوال نمبر 3: درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

Give aims of classification.	کلاسیفیکیشن کے مقاصد تحریر کیجئے۔	i
What is role of Himalayan Jungle project in conservation of biodiversity ?	ہمالیہ جنگل میں ہماریہ جنگل ہداجیکٹ کا کیا کردار ہے ؟	ii
Define aerobic respiration and anaerobic respiration.	ایروبیک ریہارتیشن اور این ایروبیک ریہارتیشن کی تعریف کیجئے۔	iii
Write down the effect of CO ₂ concentration on photosynthesis.	فوٹوسنتھیس میں CO ₂ کنسنٹریشن کا اثر تحریر کیجئے۔	iv
What type of cell division occurs when wounds are healed ?	جب آپ کے زخم بھرتے ہیں تو کون سی قسم کی سیل ڈویژن ہوتی ہے ؟	v
Define cell cycle and inter-phase.	سیل سائیکل اور انٹرفیز کی تعریف کیجئے۔	vi
Differentiate between Karyokinesis and cytokinesis.	کیریولیٹھیسی اور سائٹولیٹھیسی میں فرق تحریر کیجئے۔	vii
What changes occur in metaphase-I of meiosis ?	میوسس کی میٹافیز I میں کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ؟	viii

Q.No.4: Write short answers to any five of the followings. 5x2=10 سوال نمبر 4: درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

Write down two characteristics of enzymes ?	اینزائمز کے دو خواص تحریر کیجئے۔	i
What is meant by active site of an enzyme ?	اینزائم کی ایکٹو سائٹ سے کیا مراد ہے ؟	ii
Write the names of two important vitamins which act as co-enzyme.	دو اہم وٹامن کے نام تحریر کیجئے جو کو اینزائم کے طور پر کام کرتے ہیں۔	iii
Write down the symptoms of dengue fever.	ڈنگی فیور کی علامات تحریر کیجئے۔	iv
What is the role of potassium in plants ?	پتوں میں پوٹاشیم کا کیا کردار ہے ؟	v
What is appendix ?	اپینڈیکس (Appendix) کیا ہے ؟	vi
What do you mean by vascular surgery ?	آپ ویکولر سرجری کا کیا مطلب لیتے ہیں ؟	vii
Write down the functions of white blood cells and platelets.	واइट بلیڈ سیلز اور پلیٹلٹس کے افعال تحریر کیجئے۔	viii

(Part II) حصہ دوم

NOTE: Attempt any two questions from this part. 9x2=18 نوٹ: اس حصہ میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجئے۔

Give points to advocate that Biology is linked with Physics, Chemistry, Mathematics and geography.	4	بائیولوجی کا فزکس، کیمسٹری، میتھیمنٹیکس اور جیوگرافی سے تعلق ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کیجئے۔	سوال نمبر 5 (A)
Discuss nucleus structure and function.	5	نیوکلئس کی ساخت اور افعال و فوائد سے تحریر کیجئے۔	(B)
Define binomial nomenclature. Describe its significance.	1+3	بائیونومینل نومنکلیچر کی تعریف کیجئے اس کی اہمیت بیان کیجئے۔	سوال نمبر 6 (A)
Write a detailed note on ATP.	5	ATP پر مفصل نوٹ تحریر کیجئے۔	(B)
Summarize the eight functions of liver.	4	جگر کے آٹھ افعال کا خلاصہ بیان کیجئے۔	سوال نمبر 7 (A)
Compare the structure and functions of arteries, veins and capillaries.	2+2+1	آرٹریوں، وینوں اور کیپیلری کی ساخت اور افعال میں موازنہ کیجئے۔	(B)